



آسی ظلمت  
۲۰



182.



آبای منطومه یا جود  
خبر انبیا بر قاریه حیاتی

غایت کونجی اوویه ۳ برده

: اشخاص:

بختیار بک — دره بکارند

کاس بک — مخدری

بیابول — اوشاخو

روسه آقا — خائنه بر آرم ...

مکون — فیکارند

کوبیلد

بسه آقا — اختیار بر لوی

حیانت

حیانت

آبرود زهر

تاریه

219

یا صاهر

دردول زوریا

دولت زوریا

کونجی

آبرود زهر

کوبیلد

کوبیلد

هزینه

کونجی

آبرود

برده

حی

تاریه


{ برنجی برده } —

اولیاد صول طرف آبی این اورتہ رہ آفاج صاعہ خونہ ایدر سنے  
ریکیر آفاج ہر ایک آفاج اولک صاعہ طاف اٹک  
برنجی مجلس :

غیبہ (مالک) صک الماسی جیاجک

غیبہ — آہ یارب! ... بیخ پشہ کلا بوفلکنت نر۔ باغہ اوزرم طویار  
ایکہ جنوارک بری الہی بن بویہ کتیدی .. آہ بیارہ بیخ زوالہ آنہ  
شہدی آفلاستہ نہ حالہ کیشدر۔ بوجوارک حالت حیدت ایسوم  
بن حوسہ طوتو۔ بجا اٹک صولوتورہ بو۔ پایتہ سیک ششامہ قابلہ

بونہ اسرا۔ بن بارچہ لایوت اولدرمانہ نتیجہ ایسوم اوف اوشو  
باشدرم انجی ایسوم کیریم ... (کیر)



الماسی — دکارک) یور ویتالم جیاجک بوی ..  
جیاجک — (ایسوم) کلوسوم .. دکارک) جانم بواد فیلک انجی بہ توفیر

الماسی - آورہ جینا بہ آرم قویاری نوزک الینہ اولک ایسہ اورینا ندرہ

بویا یرارہ بولوز ..

بیا جوک - جانم سہ آو اورہ خیفہ بہ بویا یانندہ آوجہ نغاری کی نزدیک

طورہ جیفہ عم ...

الماسی - نہ اچوہ صلاح طولو رکھی؟ ..

بیا جوک - یلمع . بیسہ ایم جشمہ رہ طولیر یایم ...

الماسی - او جشمہ رہ طولاز ..

بیا جوک - یانندہ طورہ جبہ ..


الماسی - باروت فیباغی یانندہ رکھی؟ ..

بیا جوک - یو ... اورہ نیہ جو ایکن مصلیہ صاف فیباغی وارده آیدرم ..

الماسی - بدالولہ اتے منہ باروت قومیہ اچوہ قوروشن صوفیاغی وارده ..

اوکا باروت فیباغی درر .. باب احمدی بقضائک ..

بیا جوک - اشکی نمادہ بولیم ..



الماسی - قند ، قند ، قند ...

جیاجوک - کیہ قند آکدہ ؟ ...

الماسی - کتور آخرا ...  
جیاجوک - (کنڈی آخزینہ کتورہ رکت) کنڈی می : طرالدیہ جیم ؟ ...

الماسی - منہ آخزینہ رکھ .. تنطک آخزینہ کتور ..

جیاجوک - نیبیلہ یحیم بہ آخزری بلایتہ بہ .. بورہ آخزینہ وار ...

الماسی - اشته بورای آخزی .. (کوستر) بورای پوشاکتہ ...

جیاجوک - کیہ (پوشاکتہ) ...


الماسی - آمل برقوشونہ ؟ ..

جیاجوک - خدوشی یونہ .. بریکار میلک وار ..

الماسی - خدوشی رکھ حریف .. قوشونہ ...

جیاجوک - کیہ قوشونہ قوشونہ ..

الماسی - باہہ موقدہ می ؟





جیاجوک - اوہ قمار والے محبت ایسور ..

الٹاس - بن قیز ریرہ قوشونہ خزینہ رہی؟ ..

جیاجوک - خزینہ رہی ہو لیکن یا نہ ..

الٹاس - جانم نہ ہو لیکن قوشونہ رہی؟ ..

جیاجوک - رہی نہ جانم رہی ..

الٹاس - چہ خبری یہ؟ ..

جیاجوک - ہاں رہی رہی جیہ جیہ جیہ جیہ عربیہ جیلے یا کورہ

جیہ عربیہ جیہ جیہ نہ الیوہ ..

الٹاس - عربیہ جیہ رہی ہو اور وہ نموی .. تفتہ ایچو نہ کونزہ باہ رہی

باروت و قوشونہ ایچہ یاشونہ؟ ..

جیاجوک - کہہ .. دھریہ جیہ .. تفتہ ایچہ برتاجی نہ جالدا ..

الٹاس - اوہ فینجیہ ..

جیاجوک - اہتہ نہ .. (جیہ ایچہ فینجیہ اور نہ یا شادا) ..

الماہی - خانہ نہ پائیوید .. توقفک ریخہ اور ...

جیا جوک - یکی (اور و) ...

الماہی - ہایہ نشاہ ال نشاہ ...

جیا جوک - نشاہ قہ بیت ...

الماہی - اولاً نہ ہویوید .. ہایہ توقفن تو جانم آکہ کوزک ایہ نشاہ

آہ خبیب آہ خبک ...

جیا جوک - یایم ..

الماہی - نشاہ آہ آت ...


جیا جوک - (نشان آہ) ہاہ قہ لہہ؟ ..

الماہی - اوغلآ توقفن یہ نہ یاتک ...

جیا جوک - جہ ریدک بنہ آتم ...

غریبہ - (انیدہ جہیرہ ..) اماہ یاریہ ناسیہ استیم ...

جیا جوک - دکورہ رک کنہ) اماہ وای بقا لاریم .. (تمنا ایہ) ...



الماس - (کنینہ ظہر ایسے) نہ او نہ یہ تمنا ایسویسے ... (غریبہ یہ کوریس) ...  
آہ باریے نہ کوزک برفیتز ...

بیاجوک - راورانغہ ...

ریبہ - آہ بگا طوقنغہ بلرز؟ یہ فلاکت زردہ کم ...

الماس - فلاکت زردہ من؟ .. بورادہ نہ اینک وار .. بورادہ نصدہ بشایورسے

غریبہ - آہ افخ نہ برجزوار باغہ قینندہ آدی .. بورای کنسی اینتہ کوتورسے ...

بیاجوک - وای سہ آئی انکدہ من او کور بوریسے .. یوقے برآی قاریسے اولسوسہ ...

الماس - صہہ بدلا صنت


الماس - یکہ بزخ یورادہ آدی کوتورہ جاز .. جسہ کیمہ فزیسے ...

غریبہ - آید شرافت خانہ فزیسے ...

بیاجوک - وای سہ او احتیاراتہ فزیسے .. (ایچوردیہ ایچرسہ) اماہ پرسی وار

غریبہ - ہاہ کیو ... اماہ ضاقلا تیز .. بنہ اینتہ کہ تم .. (کیسے) ...

(الماس کزلنور بیاجوک آقاچہ جیبا .. این کلو .. ستر ایہ صوکتیر)



(اینہ کیسے کتار روز کسیر)

جیا جوک - اماہ تک اقصہ .. آئی یہ کور دکن سندھ لوک باہو ...  
الاجہ - بدالہ ایتر حرکے بیجاہ فزہندی قوتارک ..

جیا جوک - (ایجر رسی) اماہ بنہ کاپو ...

الاجہ - جیا جوک کوریم بن .. آجہ اوتہ بن شاہ اک ..

جیا جوک - وہ ازانی کتیمہ ... (آغا جہ ارفہ بن صاحبانہ آیر کور) (جیا جوک)

(طبانہ رتہ بن خاشر .. املاک اینہ کونزیر روز ایکہ جیا جوک کورور)

الاجہ - آفریہ جیا جوک .. جہ دین یوز بڑہ کیلم .. (عمیہ ایہ الماک کہ)

جیا جوک - اوغلا اوغ دغہ کوپہ آتہ .. جولاغی جاکہ .. (آو صوبہ سندھ عیاض)

(حکک .. بیہ - تمام روز ایہ اٹوش جیا جوک صایور .. آئی ایہ)


(کوہ شور) اماہ جاہ قوتارکہ یوقہ! (ہایتہ باز بوغوشور جیا جوک قیاض)

ماردوکی (با سندھ آئی باشلہ جیتایر) بانزایت ہوس او کتیم فریبہ بن المید

الیدار .. بہ اونہ اجویہ بوقہ - مقنتہ جاکہ رگ دور یوقیاقہ کہ رگ

بویا قہ کونزیریکم حکک بوارہ آوہ کونزیر دالہ .. بلاکیہ اونہ تیہ

اولہ جیم (کدیہ) : پردہ ایتر



ملک

— تم: ایک ہی پر رہ: —

جیسا ایک کے خاتمے .. مزید برصا کوہ .. صاف ہے ..  
صورتے قایم .. قولیوںہ ضد الی کر .. اور تم کریں صاحب اوزرینے کتابہ و سائے ..

— { برنجی مجلس } —


جیسا - صاف جیسا جوں - الامحی - غریبہ ...

جیسا - جوہ ہے . بوضوح ہے وہ قاعد .. ایک ساعت اجوبہ صاف آگے ہے ..  
حالا کلمہ ہے ... جیسا جوں وہ تکرار تکرار .. تینہ ایتیم .. انشاہ کلونڈرہ

پر رہا کتہہ لربہ ساعت ایتیم جیسا ..

جیسا جوں - (کلاک) بی کے اف (اتان اوزر) آہ اف ہشت کلونڈرہ بی کے ک!

جیسا - نہ اولدی . یوتس اولدی ہاشے بر فدا کتہہ کلونڈرہ ..



جیسا جوں - خرافع ..

جیسا - پانے اولدی ..

جیسا جوں - پراپی اور دم ..

جیسا - آفیبہ جیسا جوں .. دینے کو توڑ رکھی؟ ...

جیاجوک - آنرہا اونیم ریجی یوزیوری؟ ...

جینا - نیاجونہ ...

جیاجوک - ماعہ ایگزیرہ آکلایم ...

جینا - آکلایم تقالم ...

جیاجوک - انم کوہک کیدہ بلکہ بنم قینک ایرومنک کی اویانہ ایجوہنے  
کیردکے .. کوہک بٹ بگا اوراہ سارے قولانہ بن تقریب ایسورہ

برہ نہ تیایم کوہک برآیہ ایجاوا .. ایجوکسندہ برقد جیوجک ..

جینا - ایجا ایجوکسندہ نما؟ ...


جیاجوک - اوہ آغلایہ روفہ یاتمک کادی .. ادنی آئی المسہ اینہ کو تو قش ...

(قابو جاوہ ..)

جینا - قویہ یامہ ...

جیاجوک - (قویہ باقرہ) مردہ اوضہ ارغللا لہ اوقبہ جند کلدیلہ ...

الاجی - (نویبہ ایہ کادی ..) ایجا ایجوکسندہ نما؟ ...



عفتہ ایگزیرہ؟ ...

جیسا - بوفیز جینز کیم ؟ ..

ماس - یا با جینم بوفیز جینز او وائٹنک برائی ایٹھ بولڈوہ .. جو ازل یلسی بون ..  
ہائڈر گلس .. گندہ اینک ایک کونڈرہ بسپوروشی ..

جیسا - بسپوروشی .. تختہ جٹ ..

بیا بولڈوہ - یا املہ جو کو توڑو ایکہ بہ اور دم .. لاکہ کوپہ اوغلہ اوٹامس ..

جیسا - قینم اوغلہ جو لکھی طوفری ؟ ..

طوفریہ - اوسہ افص بہ یانک او زوم طوبلا بوریوم .. بن او جنوار قابدینہ کی .. طوفری


ایک کونوری .. بہ فور قومہ یا بائٹ ایوم ..

جیسا - واہ زوالی .. کیہ سہ کیہ قزیہ ..

طوفریہ - افص آجوسہ آفاخر ..

جیسا - یا شو بنم آجوسہ آفاخر .. یک افلا قورنہ ارتقہ قور بولڈوہ .. بہ ..

جسہ آجوسہ آفاخر .. جو کونڈوہ در بورا چا غدریم ..



ماس - لکہ یا با جینم ؟


Handwritten notes or scribbles at the bottom left corner of the page.

بجیا۔ نہ وا۔ کا...  
الماہی - (جیا چولہ) آہ جیا چولہ .. غریبہ ی ہوراکین پیریہ زہدہ ہویلم ...  
جیا چولہ - بہ ہویلم : انہ ماہا ایدر اب کن چڑی ہویلم حکم ...  
بجیا۔ نہ ایتورک ...

جیا چولہ - اوغلک صیور رہ .. اونک طرفندہ بہ ہویلم حکم !... اوتام جو  
برہن رکھ آنا... ایہ ایتہ ...  
بجیا۔ نہ ایہ ہویلمک ...

جیا چولہ - انہ اوغلک غریبہ ی ہویور ..  
بجیا۔ یا ایک اعلا پیری کلہ کیک وقت استرز ...  
الماہی - (غریبہ ایہ برکت آتہ ایدر لک) نہ ایدہ رم یا اہ جنم ؟ .. (فیو جانور)

بجیا۔ - جیا چولہ باہ کلا کیمد ...  
جیا چولہ - (قاویہ باقرہ) انہ آبرو آفا ایہ زوجی ...  
بجیا۔ - فرم حاہرہ بہہ انجری جیلہ .. مرادہ ایتہ اشاہ یفتہ روکونڈی



یاہ جنم ؟



قریه - او عمر کو دیر سوہ افغ (آمنی ادیب) .. (کبیر) ...

ایزبک خلیفہ

اولیاد .. آبرو .. نازلی صاف جاموں ..

آبرو - (نازلی ایہ کھارک الفتا ایڈر) صلح السلام ..

بجیا - علیہم السلام .. صفا کلدیز .. آبرو آغا نازلی قادیہ ..

آبرو - صفا بوردہ .. افغ ..

بجیا - جوہ کلدک ناز لاسہ قادیہ ..

نازلی - جوہ بوردہ .. چابوہ اول آغا ..


بجیا - اوغلا اونہ اسم نازلی قادیہ ..

چامیل - اودہ نیم اسمی باطنہ سو بیور .. باقہ کنز آ .. چابوہ اول آغا دیور ..

بجیا - قریہ بیور ..

چامیل - قریہ بیور ..

آبرو - نہ زحمتہ اوغلی .. صافہ ..



چیا چوک - بیکه (کله) ...

آبروه - آه چه لطف بردانه چه فزیم فزیده غایب اینک

نازل - با اقتضای یافته کنیده ... اوکلوندر فزیده بر جدیده ...

چیا - واه واه - ار ایوب سوال ایندیله؟ ...

آبروه - بوتنه کویلیله سوال اینیم ... صه اویلا وهد ایندیله ... خزمی بوللا

ویجه جام ...

چیا - اویلا ایله شره ...


چیا چوک - (قهره له کونور) یوریل (دیبر) ...

چیا - اوقلم فزیده ادرمانه ایکنه برآه اینلنه بولسا ...

نازل - امانه بک افه صمیمه؟ ...

چیا چوک - یا آیه به اور دوم ...

آبروه - افریه چیا چوک ...



چیا - هایه کته .. چای ...

چیا چوک - کیه افغ ... محمدی (کدی) ...

آبوسه - آه افغ یه نه قدر محونه ایندیلا ...

غریبه - (اکارک) آه یا یا جنم .. والده حکم ... (در افغاسی ایبرک) ...

ازلی - حونه شکر بارت فزیم نادوشتم ...

بیمبار - ای آبروسه آقا وعدنه طویبوسید ... فزین بولانه دیه چکیله ...

آبوسه - زنده افغ اوغلان من الی خنیز ... مع المعنوی سزک کله برز آه اوغلان

فزیمی ویردیلد نضاک بو بنم ایویه بیوک بر سارت افغ ... افتار ایلم ...


بیمبار - محونه اولکم ... (فایو حالو) چیا چوک ... قویب بانه ...

چیا چوک - (قویب کدی) (اکور) افغ بر کولایک ...

بیمبار - (کله) ...

چیا چوک - (دایمیر کله) ...

یامانوز - (اکارک) آبروسه افغان کورده استم ... (باغفر صبا) (چیا چوک) ...



اه ...

چیا جوں - او فلاحی باقریہ ...

چانگوز - اورنگ باقریہ جاغزیہ مطاۃ السور ... حریف ...

صاحبک - ایواہ حریف بنیہ ...

ایروہ - ناہیہ ...

چانگوز - مار دوسہ آغاہ مار وار ... سہ اوکا فزینہ حریف ...

اوند حریف الیہ کلام ...

نانکی - اے اتیہ ...

آردش - مار دوشہ دیباہ جاغیم فرم یوہ ... کت کتوتی یوہ سوبہ ...


چانگوز - وای ... بریہ ہاکیہ ... اے احار لارہ ...

چیا جوں - یکت بولک صفا کدک ... (چانگوز کیہ) ...

چیا - ای آردشہ آغا ... ایچہ کیہ لک براز راحت ایچہ انشاۃ یا

چنکلم کیہ ... اور ارہ کوزل برکویہ ... وکونی باہار ...

آردش - نشد ایہ رم افم یورک لہجہ کیہ ...



اوجین محراب :

ماردومہ (صکھ) آبرومہ (صکھ) جھوک...

اردومہ - (پنج در کورک) یا آبرومہ افغا ہمہ فزینہ بکا دیدک دکھ... یکے  
نیزہ سندھ انتظام الریمہ... ہیرایت... اونہ بولفزه کایو... (کزنلور)

برومہ - (دکارک) آہ یارب جیہہ شک... ہم فزینہ ماووشدم... جیہہ بکا

اوقلی بنم رانارام اول جیہہ...

ماردومہ - (ایمیرہ جلیانی ایہ آبرومہ آبغندہ اوردوم) آہ موفدہ اولکام...

(پنج رہہ فیار) ...


آبرومہ - آہ امدار امدار...

بجینار - (جیہہ مکورک) امانہ یاربہ جیہہ جیہہ... نصن آبرومہ اوردولن...

چیاچیک - آہ آبرومہ افغان اولک...

آبرومہ - ایمیرہ بویا کیم... شوینی او اولکہ برہمہ باطلارن...

(شرفی ہویدک) آہ چیاغندہ اوردولک...




چیاچوک - دای چیاغندہ اوردولن...

چهار - هایدرو کربن آبروش آفاغ قون طومره حقیقک .. مراد اتم آبروش آفا  
به او اچیلنده ... سنا انتقامه آورم ... هایدرو اولاد لر ..


(کیده لر) ...

چیا جوله (آبروش قون کبر) نه اولدک آبروش آفا ...

آبروش - آه باجا اچنده اوموگم .. (الکسیر لک موپارک کیده لر)



: برده ایند :



?

ادعای پرده :

صحنه خضتک بنیام ... صولت فایو ...

برخی محاسن :

بجیا - آبروش آما ... - نازی خریه .. کوی فیزار ...

بجیا - آبروش آفا نصل ...

بروش - حمد اولوه بران اییمیم ...



بجیا چوک - به اوکا مرهم جورم .. آرتنه بیافننه ایسه ...  
نازی - آه او آکجه حریف کیم ایسه بجیا ...

بجیا - مرانه انیمیز اوده ن هرکیم ایس مطالعه بولده جشم ...

آبروش - نشد ایس بک افه بنم اتقاسن آکیز ...

بجیا چوک - افص خضتک کیه لک کویه کوه که حاضر نشوند ... بیخ فارتم آه

زده بلادی بکلورم ...

بجیا - های کلکانی قاره اجندیه .. منت نداشتن ایسور ...

هایه بقالم .. ( خضتک کیدر ) ...

ایلیغی حاجی:

مار دوش جانکوز کولون...

مار دوش - (کهور) .. یا آبروش اولدی اویلاص...

جانکوز - اویلا یا شده براره .. حقیقله خذیه دولون اولمجه ...

مار دوش - دولوندری اولمجه ... به حقیقله ره بقاجتم ... هر حاله خرییه ره ...


ملاص کیله صوایه حکم ...

کولون - اویلاص نه طوریرت ... نهایه حقیقله کیلم ...

مار دوش - اوه بجا یار اولمایان کیسه یا اینتم ... (گیرلم) (ابردره باپرده)

او هیجی حاجی:

جهد:



(قوشوشورک نهانیه مار دوش حقیقله اوردو)

جیبا - ایت آبروش آغا ... دوشه اوترا مار دوش جا جذاهن بولوم

آبروش - اوه بک خاتمه آلهجه گیرم ..

جیبا - کلید اولارلم .. آرتنه هیچ برانغی فاکدی؟ .. مزید الالم ویرایم




الماضی - شہزادہ بابا جہنم ...

میا جوں - ارفع نہ اعلا اولی ... لایہ بہ آجیتہ قاکم ...


تیا - سنہ فدائگرنہ مفاختہ بیدہ فزیہ کما ویرم ...

میا جوں - شہزادہ ج ... اولیایہ دو کوئی با شایلم ... (جانہ حایلم) ...

(اوینا کرانیہ)



برده این :



ک ... کاک

حناص :



روز

نوار

۱۱۶

و صغیر از این کسبه را بخند و در لود

نوار




کتابخانه



١٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على  
سيدنا محمد وآله الطيبين  
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على  
سيدنا محمد وآله الطيبين  
الطاهرين

و صبح محمد اعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

نومرد

۴۴۹

بنوا اینکه بر فایده های : نامه اوج برده  
تو بنای صخره و ضلع ماسه اولدی



۴۷۰۰

۱۶



۴۷۰۰




۱۶

سکس



۲۹  
۱۱  
نومرد



بنوا اینده بر فایده های  
سکس


Handwritten text in Arabic script, likely a title or header, positioned at the top of the page.





Handwritten signature or initials in Arabic script, located below the circular stamp.

Handwritten text in Arabic script, possibly a name or a specific reference, located in the middle section of the page.


Handwritten text in Arabic script, possibly a name or a specific reference, located at the bottom of the page.




























































































































































































































در دینی نبوده مدبران حکما بیک

اوین نبوده هم اراده ستور محمدی



T —————

✓

